


Form- A

FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No.- 1609/2022

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	11/11/2022	<p>The appeal of Mr. Muslim Khan presented today by Mr. Saadullah Khan Marwat Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench at Peshawar on _____. Notices be issued to appellant and his counsel for the date fixed.</p>
		<p>By the order of Chairman  REGISTRAR</p>

BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

S.A. No. 1609 /2022

Muslim Khan


versus

CCPO & Others

I N D E X

S. No.	Documents	Annex	P. No.
1.	Memo of Appeal		1-4
2.	Daily Dairies since 21-10-21 till 18-03-22	"A"	5-9
3.	Letter of DSP City to Administrator LRH dated 25-03-2022	"B"	10-21
4.	Impugned order dated 20-09-2022	"C"	22-23
5.	Representation dated 03-10-2022	"D"	24-25
6.	Order dated 08-11-2022	"E"	26

Through Appellant



Saadullah Khan Marwat
Advocate
21-A, Nasir Mansion,
Shoba Bazaar, Peshawar
Ph: 0311-9266609

Dated 11-11-2022

BEFORE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

S.A No. 1609 / 2022

Muslim Khan
S/O Ghani-ur-Rehman
R/O Mayar Mardan,
Deputy Superintendent of Police,
Special Security Unit (SSU),
Balakot now Peshawar. Appellant

Versus

1. Capital City Police Officer,
Peshawar.
2. Provincial Police Officer,
KP, Peshawar. Respondents

**APPEAL U/S 4 OF SERVICE TRIBUNAL ACT, 1974
AGAINST OFFICE ORDER NO. 2154 DATED 20-09-
2022 OF R. NO. 01 WHEREBY ADVERSE REMARKS
AGAINST APPELLANT FOR THE PERIOD FROM 01-
01-2021 TO 31-12-2021 WAS RECORDED I.E. NOT
FIT FOR PROMOTION OR OFFICE ORDER NO. S/
2682-83 / 22 DATED 08-11-2022 OF R. NO. 02
WHEREIN REPRESENTATION OF APPELLANT WAS
FILED / REJECTED FOR NO LEGAL REASON:**

Respectfully Sheweth:

1. That appellant was initially appointed as Constable in the year 1988 and was promoted to the rank of Head Constable in the year 1996. The said process was in-vogued when in the year 2003, he was further promoted to the rank of ASI, followed by further promotion in the rank of Sub-Inspector in the year 2008. In the year 2011, appellant was promoted to the rank of Inspector and then on satisfactory performances of official duties, promoted to the rank of Deputy Superintendent of Police (DSP) in the year 2017.

2. That finally appellant was posted to the post of DSP, LRH on 21-10-2021 as Incharge of the post for general checking of the vehicles as well as general public.
3. That at the same time, two different bodies, i.e. Police Personnel's and retired army personnel's was supervising LRH security but the personnel's of both the bodies have different criteria of checking. Numerous complaints of different types were recorded in Daily Dairies against the retired personnel's against the Army as their behavior was not per standard / mandate with patients and general public. Every dairy is self explanatory and requires worth consideration since 21-10-2021 till 18-03-2022. (Copies as annex "A")
4. That on 25-03-2022, DSP City-I Sub Division Peshawar wrote letter to Administrator LRH Peshawar about the lethargic behavior and attitude of Hazrat Khan who was right hand of the Director retired Brigadier for creating problems abusive language against police for taking action against him. He made quarrels with patients as well as general public which proof is available in shape of medical evidence. (Copies as annex "B")
5. That the said security guard namely Hazrat Khan made conspiracy with the Director of the hospital against appellant and then he made complaint to high-ups of the Police and as a result of the said complaint he was not only transferred from the hospital but R. No. 01 recorded adverse remarks against appellant for the period from 01-01-2021 to 31-12-2021, **"not fit for promotion"** vide order dated 20-09-2022. (Copy as annex "C")

Here it would be not out of place to mention that the said remarks of the year 2021 were not communicated to appellant well within time but after more than nine (09) months the same were communicated to him.

6. That on 03-10-2022, appellant submitted representation before R. No. 02 for expunction of the adverse remarks which was rejected / filed on 08-11-2022 without any reason and justification. (Copies as annex "D" & "E")

Hence this appeal, Inter Alia, on the following grounds;

GROUNDS


- a. That no complaint, whatsoever, of the parent department was made against appellant in performance of his official duties but it was another quarter on whose instance, such remarks were recorded in ACR.
- b. That Director of the hospital was a retired Brigadier and he deputed his own retired personnel's of the establishment for the purpose of security of the hospital but numerous incidents took place where visitors lodged complaints against them.
- c. That the said retired Brigadier made complaint to R. No. 02 to transfer appellant from hospital and a result, he was transferred on 22-04-2022 from the hospital to the office of R. No. 01.
- d. That on the said complaint, R. No. 01 recorded remarks:-
"Fitness for promotion..... Not fit for promotion". Which remarks were at the behest of others and not the concerned.
- e. That police personnel's has its own course of checking as against that of Armian's and due to none familiarity with civilians many problems were created, resulted into lodging of complaints against the personnel's of forces.
- f. That before recording the said remarks, neither any explanation was called for from appellant nor any warning or counseling was made but straight away recorded the adverse remarks for no legal reason.
- g. That the subject matter was pertaining to the year 2021 and it was the duty of the authority to convey the said ACRs within one month but after two years, the same were conveyed to appellant which has no legal value in the eyes of law.
- h. That the case against appellant was not dealt with as per the mandate of law, so the same are not only based on malafide rather on behalf of a retired personnel which has no legal value.

It is, therefore, most humbly prayed that on acceptance of the appeal, the impugned adverse remarks dated 20-09-2022 and 08-11-2022 of the respondents be not only set aside but the same be removed from personal dossier of appellant, with such other relief as may be deemed proper and just in circumstances of the case.




Appellant


Through



Saadullah Khan Marwat



Arbab Saiful Kamal




Amjad Nawaz
Advocates

Dated: 11-11-2022

CERTIFICATE:

As per instructions of my client, no such like Service Appeal has earlier been filed by the appellant before this Hon'ble Tribunal.



Advocate

AFFIDAVIT

I, Muslim Khan S/O Ghani-ur-Rehman, DSP (SSU) Peshawar (appellant), do hereby solemnly affirm and declare that contents of **Service Appeal** are true and correct to the best of my knowledge and belief.



DEPONENT

جوگی سپر بازار

صد 8 سزاجی 22²/₂₂

صہلے کپہ

آند
رہو

سٹرکٹریل عمل Hc اٹھارے بیس ایتھتے 1700 اے فیوے 22²/₂₂ میں ہر گھنٹہ بعد اگشت تمامہ کاہل سے

جوگی سپر بازار یا میدوں اگشت تمامہ بیس Hc اٹھارے بیس ایتھتے 1700 اے فیوے 22²/₂₂ میں ہر گھنٹہ بعد اگشت تمامہ کاہل سے

وجود ہے کہ Hc اٹھارے بیس ایتھتے 1700 اے فیوے 22²/₂₂ میں ہر گھنٹہ بعد اگشت تمامہ کاہل سے

کھڑا تھا۔ آسن ولمان اظہر اور دیگر عزم الناس اور ہر گھنٹہ کے تمامہ خوری طور پر گھنٹہ سپر جوگی سپر بازار

اور دیگر گھنٹہ سپر بازار کے تمامہ خوری طور پر گھنٹہ سپر جوگی سپر بازار

یا حوصلہ نے ایتھا Hc اٹھارے بیس ایتھتے 1700 اے فیوے 22²/₂₂ میں ہر گھنٹہ بعد اگشت تمامہ کاہل سے

22-2-22

کا

صہلے کپہ
22-2-22
MHepples

صلى الله عليه

8 اور 17³/₂₂

حکومت ہند

لکھنؤ کے سکس ایلوٹمنٹ 1930 سے 17³/₂₂ اس وقت ایک فٹ میں لکھنؤ کے سکس ایلوٹمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ

1835ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 17³/₂₂ اس وقت 1730ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ

1835ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 17³/₂₂ اس وقت 1730ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ

1835ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 17³/₂₂ اس وقت 1730ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ

1835ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 17³/₂₂ اس وقت 1730ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ

1835ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 17³/₂₂ اس وقت 1730ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ

1835ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 17³/₂₂ اس وقت 1730ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ

1835ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 17³/₂₂ اس وقت 1730ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ

1835ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 17³/₂₂ اس وقت 1730ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ

1835ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 17³/₂₂ اس وقت 1730ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ

1835ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 17³/₂₂ اس وقت 1730ء میں واقع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ

3129971580

نور علی صاحب

جناب عالی!

Registration No. _____
DSP City _____
Date _____

معروض شخص خدمت ہوں۔ کہ LRH پشاور میں پرائیویٹ سیکورٹی گاڑا حضرت خان جو کہ

نہایت بد اخلاق اور بد زبان شخص ہے۔ جو روانہ کئی دفعہ کئی جگہ لڑائی جھگڑے کرتا اور ٹھکر پو لیس، آرمی وغیرہ کے خلاف

نازیبہ زبان استعمال کرتا ہے۔ اور اکثر اوقات سرکاری ملازمان کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی کرتا ہے حضرت خان کے

اس اقدام کی وجہ سے LRH پشاور جو کہ ایک نہایت اہم ادارہ ہے کے ملازمین بدنام ہو رہے ہیں ان کے خلاف تھانہ بڑائیں

شکایات موجود ہیں۔ جو لطف اور خواہش ہے۔

استدعا ہے کہ حضرت خان کے خلاف کارروائی کر کے تمام انسانوں پر رحم کرے اس ایک

بد کردار شخص کی وجہ LRH کا تملہ بدنام ہوں۔

حسین

SHO PS KRS

18-3-22

Srs,

Respected

[Signature]

DSP City

21-05-2022

[Handwritten notes and signature]



B to

25-3-22

**OFFICE OF THE
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE,
CITY-I SUB-DIVISION, PESHAWAR.**

No. _____ /Steno, dated Peshawar the 25 / 3 / 2022.



To: The Administrator,
Lady Reading Hospital,
Peshawar.

Subject: **IMMORAL/ABUSIVE BEHAVIOR/ATTITUDE OF
SECURITY GUARD HAZRAT KHAN AT LRH, PESHAWAR.**

Memo:

It has been reported (**report attached**) by SHO PS Khan Raziq Shaheed that Hazrat Khan who is performing his duties as security guard at Lady Reading Hospital, Peshawar. His attitude and behavior with the general public are not good. He also uses abusive language against the Police and the Pakistan Army, which create a lot of problems and also effect the reputation of Lady Reading Hospital. Many complaints have been received from the general public which have been entered in the Daily Diary vide DD No. 9, dated 18-03-2022, No. 08, dated 22-02-2022 and. No. 08, dated 17-03-2022, PP Khyber Bazar.

It is, therefore, requested that take action against him.



**Deputy Superintendent of Police,
City-I Sub-Division, Peshawar.**

No. 1069-70 /St,

Copy of the above is forwarded for information to the:-

1. Superintendent of Police, City, Peshawar.
2. Deputy Superintendent of Police, LRH, Peshawar.

**Deputy Superintendent of Police,
City-I Sub-Division, Peshawar.**



EMERGENCY DEPARTMENT

LADY READING HOSPITAL

MEDICAL TEACHING INSTITUTION
PESHAWAR, KHYBER PAKHTUNKHWA

Invoice No: K02220923371
Invoice Date: 12-APR-22 19:19:53

[Handwritten initials]

MIRNA: K0200023245915 Name: Muhammad Shahab
Gender: Male Age: 28 Year(s) District: Peshawar
Father/Husband Name: USMAN GUL
Visit Type: Acute Emergent Department: EMERGENCY

Serial No. **92786**

Operator: KAMIRAN JOHN

Counter: EMERGENCY

Complaints:

Rx

• Hx of Alleged Physical Assault

Findings:

A
B
C
[Handwritten notes]

• Bruise on Rt calf. (Medial side)

• No other obvious wound

• Complains
No LOC (Rt's Vomiting)

Investigations:

Exam Rt leg
AP
Lal

T. abd. Tenderness - P
C @
res. Q. abn - P
C @ = sinus @
d
- DVT/PE/PTX / spec
Radiology

(5)

(707)

Diagnosis:

Next Visit:

Consultant Name:

Signature:

[Handwritten signature]

Phone: 92-91-2011111 Website: www.lrh.gov.pk

DSP-SECURITY
LRH-Peshawar



LADY READING HOSPITAL
MTI PESHAWAR

Book # 33
Page # 34 100

No. 22 Name Mrs Shahab Son of Osman Gul Age 28yrs Sex (M) Cast Mohamed Occupation _____
Residence Lakhkar Kalay Name of relative/friend _____ Date of examination 12 April 2022
19:18 PM

Date and hour of arrival 12 April 2022
12:19 PM
No. and date of Police docket _____
No. and date of constable Plumber
If admitted { Date of admission 12/4/22
Date of discharge _____
Date and hour of report sent to police _____

Particulars of injuries or symptoms, in case of poisoning
- N.A. of Alleged physical Assault
- Bruises on Rt. Corp. Meeley
- NO other obvious wounds

A
B
C / Lacer
Cuts: 15/15

Space for particulars as to further reference or the case date of giving evidence in court of despatch of articles and to contain position

Array Rt. Leg 1AD
1 cut

Orthopedic
Reduction repair

Arrested
DSP-SECURITY
LRH-Peshawar
Two identification marks: Oliver's
12/4/22

1. Nature of Injuries CO
(Simple, grievous or dangerous) _____
Probable duration of Injury 30 min
The kind of weapon used or poison suspected in the case of poisoning. } Blunt

Date _____ of _____ 20 _____
MLC-MRD/LRH/001
Examining Medical Officer Dr. Shamsul
In Police Case No fee received
In Private case A fee of Rs. _____ Medical Officer.
Paid to the _____
Examining Medical Officer
Signature of Thumb Impression of Private Party.


0311
19/9/62

کتابت شد

کاغذی دستاویز

مقامی طور پر جاری ہے۔
مقامی طور پر جاری ہے۔
مقامی طور پر جاری ہے۔
مقامی طور پر جاری ہے۔
مقامی طور پر جاری ہے۔
مقامی طور پر جاری ہے۔
مقامی طور پر جاری ہے۔
مقامی طور پر جاری ہے۔
مقامی طور پر جاری ہے۔
مقامی طور پر جاری ہے۔

Abdul


12-4-2022
ASL/11

DSP-SECURITY
LRM-Peshawar

۱۹ مارچ ۱۹۰۴ء کو جی ایم ایف ایف ۱۷۵۵۵۵ سے ۱۲ ۰۴/۰۲۲ تک کے اج میں صبا معمول ڈے گئے ہر تھا ۱۷۵۵۵۵ سقوی روح ارتد

634 نظیر 2573 بھی ۱۷۵۵ گیت میں موجود تھے کہ ایسی دوران سکریٹری کا ڈر شاہ لکھنؤ عہدہ ۱۷۵۵ شہاورد
ان کے ساتھ دیگر سکریٹری علم اور سپروائزر حضرت بعض موجود تھا ان شخص صبی شہاورد ولد عثمان گل سکنہ
بٹنک جوگن ریشی اوٹر کو میران راکر بہاں کیا کہ شخص بالا ٹائٹس اور گیسٹ ہیران کی کو شہس فریہ تھا جو
روکن کران کی وجہ سے م کی انھوں نے لیا کہ میرا والد ہم ملے کل "B" واڈر سٹیڈیئر ۱۷۵۵ ہیر زہر علیہ سے
اور کافی سپر سس حالت میں ہیں لیکن بالا سکریٹری ایلیٹا ران بنز تھیں اور مجھے لکھنؤ میں نہیں بھیجے
میں تھیں اور مجھے لکھنؤ اور لکھنؤ سے فرکوب کیا جبکہ وجہ سے میرے جسم میں شدید درد
سوریا میں اور مجھے جوگی ۱۷۵۵ لکھنؤ میں اس دوران میں ۱۷۵۵ نے ان کو تیار کیا کہ اسے اسے
شخص کو کسی فہم میں گرفتار کیا میں تحریری مراسلہ دی جائے تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی
جوگی کی جائے جس سے مشغل ایلیٹا ران نے کیا کہ اب ۱۷۵۵ لو لیس ہمارے انڈر میں اس میں وہیں
عمل کی جائے جس میں ۱۷۵۵ نے ان کو کہا کہ یہ ایک قانونی مسئلہ جو پندرہ کسی ثبوت یا تحریری
الوجہ کے بغیر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے بلکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی
کے سامنے فریڈ اس شخص کو فرکوب کرنا شروع کیا شخص متاثرہ اس کی ڈاکٹری جانچ کا خواہ
مجھے لکھنؤ ان کو نقد ضرر میں ان کو لکھنؤ ڈاکٹر کو سپر کیا جائے حالہ میں جسے بعض صورت
ماری گئی جس سے ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی واقعہ سے کہ حضرت سپروائزر صاحبوں
نے شہاورد میں ایڈاراج قائم کر رکھا ہے روزانہ حضرت صاحبوں کے ساتھ تبادلہ فلاحی اور معمولات
کرنا میں جس کے خلاف جوالم ہدایت ۲۲ روزنامہ ۲۲ ۰۲/۰۲۲ سے ۱۷ روزنامہ ۱۷ ۰۳/۰۲۲


صدر اعظمی، 18/03/2022 کوئی ضمیمہ بازار میں الوریٹ رینج سو فکے میں ارسال سلسلے میں ضابطہ DSP-SECURITY
سٹی آف سیال رنڈا مندر کو حضرت آذراف عوشی (مفتی نوری) 7/5/1069-110 ارسال کے بعد جمع طور پر
اور مفتی نوری عوشی (مفتی نوری) الوریٹ میں الوریٹ رنڈا مندر کو نقل عملہ مرتبہ کے بغیر مناسبت
کا روائی اضرائع بالاکمی خدمت میں ارسال کی جاتی ہیں

Attested



DSP-SECURITY
LRM-Peshawar

ضابطہ عالی
نقل سطلاتی اصل سے



12-04-2022

11/1

11/5

17

32-4-22



EMERGENCY DEPARTMENT

LADY READING HOSPITAL

MEDICAL TEACHING INSTITUTION PESHAWAR
PESHAWAR, KHYBER PAKHTUNKHWA K0220923313

Invoice Date : 12-APR-22 18:34:55

NO : K0200022245885

Name : Shah Oasand

District : Peshawar

Gender : Male

Age : 50 Year(s)

Serial No. 80229

Husband Name : MISAL KHAN

Department : EMERGENCY

Counter : EMERGENCY

Complaints:

SAJJAD
Pain in Rt Hand

106

Apply BSLAS below lence

hyp. T. T. / m/s

Trauma to (R)
Foot

ASD

Findings:

BP - 140/80

7as Troughlet P
7as Dayen R
Qaliam - N

Investigations:

Adm
V. Ray (R)
Foot ← No

Emergency Department
Lady Reading Hospital
Peshawar

2 Lo (R) in (R)

Diagnosis:

107

Admitted

1/10/13
13.04.22 for

DSP-SECURITY
LRH-Peshawar

Next Visit:

Consultant Name:

Signature:

18

12-4-22



EMERGENCY DEPARTMENT

LADY READING HOSPITAL

MEDICAL TEACHING INSTITUTION PESHAWAR
PESHAWAR, KHYBER PAKHTUNKHWA K02220923313

Invoice Date : 12-APR-22 18:34:55

MRN : K0200022245885

Name : Shah Oasand

District : Peshawar

Gender : Male

Age : 50 Year(s)

Serial No. 80229

Spouse / Husband Name : MISAL KHAN

Acute Emergency Department : EMERGENCY

Counter : EMERGENCY

Complaints:

LIAD
Pain in Rt Hand

Apply BSLAS below knee

inj. T.T. / MS

Trans to foot

106

ASD

Findings:

BP - 140/80

Tas Torsflex - P
Tas Dayem Rf

Investigations:

Achilles
V. Ray
Foot

Systemic Toxicity by MRSA
L. pneumophila Group 1
Diphtheria & Pertussis

Rabam - A
2 Lo @

Diagnosis:

Attended

DSP-SECURITY
LRH-Peshawar

Next Visit:

Consultant Name:

Signature:

39

12-4-22



EMERGENCY DEPARTMENT
LADY READING HOSPITAL
MEDICAL TEACHING INSTITUTION PESHAWAR: 20
PESHAWAR, KHYBER PAKHTUNKHWA K02220923313

Invoice Date : 12-APR-22 18:34:55

ID: K0200022245885

Name : Shah Oasand

Gender : Male

Age : 50 Year(s)

District : Peshawar

Husband Name : MISAL KHAN

Serial No. 80229

Acute Emergency Department : EMERGENCY

Counter : EMERGENCY

Complaints:

Pain in RFT hand

106

Apply BSLAS below knee

inj. T.T. / m/s

Trauma to foot

ASD

Findings:

BP - 140/80

Tas. Temples - P

inj. @

Tas. Dayer R

Investigations:

Adel
D. ray

Systemic Lupus Erythematosus
Lupus Erythematosus
Lupus in Peshawar

Qalsam A

inj. @ inj. @

Foot

13. April for
24 hr

Diagnosis:

Attended

DSP-SECURITY
LRH-Peshawar

Next Visit:

Consultant Name:

Signature:

Phone: 9211430

Website: www.lrh.gov.pk

محمد عتیق جٹا نو 2015 میں ایک اور ویج ایس کا آگیا -

32-4-22

20

درخواست گزار کا فون نمبر 345-6121660

جٹا ہو گا

مزدبانہ آرڈر میں دیکھا کہ آج صبح 12:22 بجے وقت
 تقریباً 6:00 بجے پیر ایک شخص نے ماسک لگا کر ڈیپارٹمنٹ سے اندر آئے اور
 ٹریکس لگا کر ڈیپارٹمنٹ کے اندر آئے اور اس سے کہا کہ یہ بائیس ہزار
 روپے ہیں۔ یہاں سے اندر آئے اور پورے طور پر ڈیپارٹمنٹ میں گئے
 اسی دوران مختلف شخصوں نے جمع پیر تنہا دار چاقو سے وارنٹ میں
 چاقو سے ہاتھ بٹا کر کہا جبکہ بائیس ہزار روپے کی رقم لے گئی۔ اس
 شخص نے چلو پیر پولیس کے حوالے کیا۔ محمد پیر جان سے ہارنے کی ٹھیکر
 نوٹس لیا۔ تنہا دار چاقو کو ماسک پولیس کے حوالے کیا۔
 لہذا اسی دوران سے انہی کے کہنے پر مختلف شخصوں نے ماسک پولیس کے حوالے کیا
 کہ خلاف محمد پیر ہارنے کی نوٹس لے کر ڈیپارٹمنٹ کے قریب کے علاقے
 سرزئی کے خلاف FIR جمع کر لیا۔ محمد پیر ہارنے کی نوٹس لے کر ڈیپارٹمنٹ کے علاقے
 کے حوالے کیا گیا۔

انصار علی محمد پیر ہارنے کی نوٹس لے کر ڈیپارٹمنٹ کے علاقے کے حوالے کیا گیا۔

محمد پیر ہارنے کی نوٹس لے کر ڈیپارٹمنٹ کے علاقے کے حوالے کیا گیا۔

3-764-1538764-17101-6121660-0345

DSP (Security) MLC

Incharge MLC take
Doctory opinion

2RH

DSP-SECURITY
LRH-Peshawar

6:28 PM
12/4/22

24
35
12-4-22

Attested

بخدمت جناب سید
12-4-22

مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم اسلامیہ کراچی

درخواست براد قاضی صاحب

21

جناب عالی

سورہ بانہ نزارشیں دہلی - کہ آج عرصہ 12-04-22 کو وقت

تعمیراتی کام کے لیے پورے شہر میں عوامی اور نجی عمارتوں کی تعمیرات
کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کی مالیت کی تعمیرات سے سب سے پہلے
اسی عمارتوں میں اندر آنے والے طور پر عمارتوں کی تعمیرات
کیا جاسکے گی۔ یہاں پر عوامی اور نجی عمارتوں کی تعمیرات
کی تعمیرات کے لیے پورے شہر میں عوامی اور نجی عمارتوں کی
تعمیرات کے لیے پورے شہر میں عوامی اور نجی عمارتوں کی
تعمیرات کے لیے پورے شہر میں عوامی اور نجی عمارتوں کی

تعمیرات کے لیے پورے شہر میں عوامی اور نجی عمارتوں کی
تعمیرات کے لیے پورے شہر میں عوامی اور نجی عمارتوں کی
تعمیرات کے لیے پورے شہر میں عوامی اور نجی عمارتوں کی
تعمیرات کے لیے پورے شہر میں عوامی اور نجی عمارتوں کی

انصار علی
12-04-22
سرگودھا شہر
3-764-1538-17101-0345

Attested
DSP (Security) LRH Peshawar
Incharge MLC take
Doctory opinion
6:28 PM
12/4/22



OFFICE OF THE
GENERAL OF POLICE,
KHYBER PAKHTUNKHWA
CENTRAL POLICE OFFICE, PESHAWAR.
Phone: 091-9210927 Email: secretbranchcno2@gmail.com

No. S/ 2154 /22, dated Peshawar the 20 / 9 /2022

To : The Capital City Police Officer,
Peshawar

Subject:- PER / COMMUNICATION OF ADVERSE REMARKS

Memo:

In the Performance Evaluation Report on the working of DSP Mr. Muslim Khan for the period from 01.01.2021 to 31.12.2021, it has been mentioned that:-

REMARKS OF COUNTERSIGNING OFFICER (CCPO PESHAWAR)

PART-IV

7. Fitness for Promotion..... Not yet fit for promotion


PART-V


COUNTERSIGNING OFFICER EVALUATION

DSP Muslim Khan had a very average performance. He was reported against by the head of Khyber Teaching Hospital and subsequently did not show any improvement while posted in Lady Reading Hospital. Moreover, he took any responsibility assigned to him very casually.

The above adverse remarks may please be conveyed to the officer concerned in order that he may remedy the defects. Representation if made should be sent not later than one month from the date of receipt of this communication.

The ack: as token of the receipt of this memo: may be obtained from him on the attached duplicate copy of this communication and returned to this office for placing in his Character Roll Dossier.


(DR. ZAHD ULLAH), PSP
AIG/Establishment,
For Inspector General of Police,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar


19/09/22.

23

20-9-22

Special Security Unit (CPEC)
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.



No. 987 /AS, dated Peshawar the 20/09/2022

Subject: PER/COMMUNICATION OF ADVERSE REMARKS.

Memo:

Enclosed please find herewith adverse remarks in PER of the then DSP/Security LRH:, Peshawar Muslim Khan now posted in (CPEC) for the period from 01.01.2021 to 31.12.2021.

The adverse remarks may please be deliver upon him and duplicate copy of the same may please be return to this office duly signed by the DSP concerned for onward submission to CPO.


FOR CAPITAL CITY POLICE OFFICER,
PESHAWAR

20/9

No. /AS,

Copy of above is forwarded to Supdt:Secret CPO for information to his letter No.S/ 2151/22, dated 20.09.2022.


FOR CAPITAL CITY POLICE OFFICER,
PESHAWAR

D

24

3-15-22

To

The Inspector General of Police
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

Subject: Adverse remarks of the countersigning officer (CCPO Peshawar) against order No.S/2154/22 dated 20.09.2022 of my honour whereby the same was recorded as not yet fit for promotion in the ACR.


Respected Sir,

- 1) That appellant has in his credit 34 years unblemished service wherever he was posted, he performed his duty upto the standard.
- 2) That finally appellant was posted as Security Incharge in the office of CCPO, Peshawar but due to general threats to hospitals, he was deputed to LRH Peshawar on 23.11.2020 for security measures.
- 3) That Director of the hospital was a retired Brigadier and he deputed his own personnels for the purpose but many incidents took place where the visitors lodged complaints against the personnels.
- 4) That the said Brigadier made complaint to PPO to transfer appellant from the hospital and as a result, he was transferred on 22.04.2022 from the hospital to the office of CCPO, Peshawar.
- 5) That on the said complaint, your honour wrote remarks:-
"Fitness for promotion ----- not yet fit for promotion" vide letter dated 20.09.2022.
- 6) That as stated earlier, police department has its own course of checking, while the Army has his own one and due to not familiarity with civilians, many problems were created resulting into lodging of numerous complaints by the civilians against the retired personnels of forces.

- 7) That anyhow, neither any explanation was called for from appellant, nor any warning or counseling was made to him and straightaway recorded the aforesaid adverse remarks in the ACR.
- 8) That the matter was pertaining to the year 2021. It was the duty of the authority to convey the said ACR within one months but after two years, the same was conveyed to appellant which has no legal value in the eyes of law.
- 9) That the matter was not dealt with as per the mandate of law. So the same is not only based on malafide rather on behalf of retired personnels. So is of no legal effect.


It is, therefore, most humbly requested that the impugned adverse remarks dated 20.09.2022 of my honour be set aside and appellant be let to perform his official duties to the best of abilities. The same be removed from his personal dozier and obliged.

Thanking you Sir,


Muslim Khan
s/o Ghani-ur-Rehman
DSP (SSU) Balakot.
Cell: 0301-8980968
0315-9966157

Dated: 03.10.2022

8-12-22



OFFICE OF THE
INSPECTOR GENERAL OF POLICE,
KHYBER PAKHTUNKHWA
CENTRAL POLICE OFFICE, PESHAWAR.

Phone: 091-921092 Email: secretbranchcpo9@gmail.com

No. S/ 2682-83/22, Dated Peshawar the 8/11/2022.

ORDER

This order pertains to the representation preferred by DSP Muslim Khan of CCP Peshawar for the expunction of Adverse Remarks contained in his ACR for the period from 01.01.2021 to 31.12.2021 recorded by the countersigning officer. Comments were also obtained.

After going through the relevant record, comments and material on ground the Adverse Remarks recorded in his ACR for the period from 01.01.2021 to 31.12.2021 are maintained and his representation is hereby filed/rejected.

Sd/-

Addl: IGP/HQrs:
For Inspector General of Police,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

Endst: No. & date even.

- Copy of above is forwarded for information and necessary action, to the:-
- ✓ CCPO Peshawar w/r to his memo: No. 1095/AS, dated 24.10.2022. Necessary entry into this effect may also be made in his Duplicate Character Roll Dossier. The applicant may also please be informed accordingly.
 2. Supdt: "E-I" Branch, CPO.

(IRFAN ULLAH KHAN), PSI
AIG/Establishment
For Inspector General of Police,
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar

OFFICE OF THE CAPITAL CITY POLICE OFFICER PESHAWAR

No. 1113 /AS, dated Peshawar the 18/11/2022.

Copy of above is sent for information and necessary action to the:-

- ✓ 1. Commandant,
Special Security Unit, (CPEC), Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.

FOR CAPITAL CITY POLICE OFFICER,
PESHAWAR

بعد الت چاپ سرسٹریٹ ٹریڈنگ کمپنی پشاور

مختراب
اسٹریٹ
مختراب
اسٹریٹ
مختراب
اسٹریٹ
مختراب
اسٹریٹ

باعتبار

© ————— ©

مختار مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی و عمل کاروائی متعلقہ آن مقام پشاور
کیسٹم اسٹریٹ آفیس خان سرور سے ایڈوکیٹ ہانی کورٹ کو وکیل مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب
مذکورہ کو مقدمہ کی عمل کاروائی کا کابل اختیار ہوگا نیز وکیل صاحب کو کرنے راہی نامہ و اقرار ثالث و تیسرا برتلاف
ہیے جواب دہی اور قبیل دعویٰ اور بھرتی ڈگری کرنے اجراء اور دعویٰ چیک و روپیہ اور رضی دعویٰ اور درخواست
ہر قسم کی تقدیرین ازہ اس پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا نیز بھرتی عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی
اور تیسری نیز دائر کرنے اپیل نگران و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا اور بھرتی ضرورت مقدمہ منکرہ
کے عمل یا جزوی کاروائی سے واسطے اور وکیل یا مفاد قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنی بجائے تفرک کا اختیار ہوگا
اور صاحب مقرر شدہ کو بھی وہی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ پروا منتہ منقولہ
قبول ہوگا اور دوران مقدمہ میں جو خرچہ و ہر جانہ التوا مقدمہ کے سبب سے ہوگا اس کے مستحق وکیل صاحب
مذکورہ ہوں گے نیز بقایا و خرچہ کی وصولی کرنے کا بھی اختیار ہوگا اگر کوئی تاریخ پیشی متعلقہ درجہ
پر ہو یا عدسے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند نہ ہوں گے کہ پیروی مذکور کریں۔
لہذا وکالت نامہ رکھ دیا کہ سند ہے۔

المرقوم 11-11-2022

التبید التبید التبید

ارباب نیگ انکمال
ایڈوکیٹ

سیدہ الشہد خان فرورست
ایڈوکیٹ

Marked

محمد نواز
ایڈوکیٹ